



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الانفطار بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ

.1

جب آسمان چر (پھٹ) جائے،

وَإِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَفَرَتْ

.2

اور جب تارے جھڑپڑیں (بکھر جائیں)،

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

.3

اور جب دریا بہہ پڑیں،

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

.4

اور جب قبریں اٹھائی جائیں۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

.5

جان لیوے (لے گا) جی (ہر شخص) جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

.6

اے آدمی! کاہے سے بہکا تو اپنے رب کریم پر؟

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

.7

جس نے تجھ کو بنایا، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا۔

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ

.8

جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔

كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِاللَّيْلِ

.9

کوئی (ہرگز) نہیں! پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف ہونا۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

.10

اور تم پر نگہبان مقرر ہیں۔

كِرَامًا كَتَبِينَ

.11

سردار لکھنے والے،

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

.12

جانتے ہیں جو کرتے ہو۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

.13

بیشک نیک لوگ آرام میں ہیں،

.14

وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

اور بیشک گنہگار دوزخ میں ہیں،

.15

يَصْلُونَهَا يَوْمَ الدِّينِ

پہنچیں گے اس میں انصاف کے دن،

.16

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

اور نہ ہوں گے اس سے چھپ رہے والے۔

.17

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟

.18

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ

پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟

.19

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا

جس دن بھلا نہ سکے کوئی جی (نفس) کسی (دوسرے) جی (نفس) کا کچھ۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

اور حکم اس دن اللہ کا ہے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com